

KOHINOOR
TEXTILE MILLS LTD.

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

PUCARS / Courier
KTML/PSX-18/62
November 11, 2024

Subject: Published copies of Public Announcement of Competitive Bid to acquire ordinary shares and control of Agritech Limited by Maple Leaf Cement Factory Limited in Newspapers


Dear Sir,

Kohinoor Textile Mills Limited (the "Company") has viewed a public disclosure / information on PUCARS from its subsidiary company, Maple Leaf Cement Factory Limited on November 11, 2024 on the subject.

In this connection, we are pleased to submit herewith copies of Public Announcement of Competitive Bid by Maple Leaf Cement Factory Limited (MLCF) together with intimation given by M/s. Next Capital Limited on behalf of MLCF, for your information and record purpose.

You may please inform members of your Exchange accordingly.

Yours faithfully,
For Kohinoor Textile Mills Limited


(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Encl: As Above

Maple Leaf Cement Factory Limited



42-Lawrence Road, Lahore (PAKISTAN)
Phones: 042-36278904, 042-36278905

The General Manager,
Pakistan Stock Exchange Ltd,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi.

PUCARS/ Courier
MLCF/PSX-7/68
November 11, 2024

Subject: Published copies of Public Announcement of Competitive Bid to acquire ordinary shares and control of Agritech Limited by Maple Leaf Cement Factory Limited in Newspapers


Dear Sir,

Maple Leaf Cement Factory Limited (the "Company") has viewed a public information on PUCARS from M/s. Next Capital Limited, the Manager to the Offer of the Company on November 11, 2024 on the subject.

In this connection, we are pleased to submit herewith copies of Public Announcement of Competitive Bid duly published on **November 11, 2024** in Daily Newspapers namely, the Nation and Nawa-e-Waqt, for your information and record purpose.

You may please inform the TRE Certificate Holders of the Exchange accordingly.

Yours faithfully,
For Maple Leaf Cement Factory Limited


(Muhammad Ashraf)
Company Secretary

Encl. As above



November 11, 2024

Executive Director

Public Offering and Regulated Persons Department
Securities Market Division
Securities and Exchange Commission of Pakistan
NIC Building, Jinnah Avenue, Blue Area, Islamabad

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building
Stock Exchange Road, Karachi

Ms. Asma Irfan

Company Secretary
Agritech Limited

Askari Corporate Tower, 4th Floor, 75-76, Block D-1,
Main Boulevard, Gulberg III, Lahore

Brig Zulfiqar Ali Haider

Company Secretary
Fauji Fertilizer Company Limited
156 The Mall, Rawalpindi Cantt
Pakistan

Subject: **Publication of Public Announcement of Competitive Bid to acquire ordinary shares and control of Agritech Limited by Maple Leaf Cement Factory Limited in Newspapers**

Dear Sir/ Madam,

Reference is being made to our letter dated November 06, 2024, wherein we, Next Capital Limited submitted the Public Announcement of Offer through Competitive Bid ("PAO-CB") to acquire 160,762,209 ordinary shares and control of Agritech Limited ("Target Company") by Maple Leaf Cement Factory Limited (the "Acquirer").

As required under regulation 17(2) of the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017, the PAO-CB has been published in The Nation and Nawa-e-Waqt on November 11, 2024; copies of the newspapers are attached for your record.

Should you require any additional information or clarification, feel free to contact the undersigned.

Sincerely,

For and on behalf of Next Capital Limited

Humaira Asad
Director, Investment Banking



MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED

Registered Office: 42-Lawrence Road, Lahore. Ph # 042-36278904-05

K M L G

Kohinoor Maple Leaf Group

PUBLIC ANNOUNCEMENT OF PUBLIC OFFER THROUGH COMPETITIVE BID TO ACQUIRE 37.86% SHARES (I.E. 160,762,209 SHARES) AND CONTROL OF AGRITECH LIMITED ("AGL") BY MAPLE LEAF CEMENT FACTORY LIMITED ("MLCF") UNDER THE SECURITIES ACT, 2015 (THE "ACT") AND THE LISTED COMPANIES (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF VOTING SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2017 (THE "REGULATIONS")

DISCLAIMER

"IT IS TO BE DISTINCTLY UNDERSTOOD THAT FILING OF DOCUMENT OF PUBLIC OFFER WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN SHOULD NOT IN ANY WAY BE DEEMED OR CONSTRUED THAT THE SAME HAS BEEN CLEARED, VETTED OR APPROVED BY THE COMMISSION. THIS DOCUMENT HAS BEEN SUBMITTED TO THE COMMISSION FOR A LIMITED PURPOSE OF OVERSEEING WHETHER THE DISCLOSURES CONTAINED THEREIN ARE GENERALLY ADEQUATE AND ARE IN CONFORMITY WITH THE LAW/REGULATIONS. THIS REQUIREMENT IS TO FACILITATE THE SHAREHOLDERS OF AGRITECH LIMITED TO TAKE AN INFORMED DECISION WITH REGARD TO THE PUBLIC OFFER. THE COMMISSION DOES NOT TAKE ANY RESPONSIBILITY EITHER FOR FINANCIAL SOUNDNESS OF THE ACQUIRER OR THE COMPANY WHOSE SHARES / CONTROL IS PROPOSED TO BE ACQUIRED OR FOR THE CORRECTNESS OF THE STATEMENTS MADE OR OPINIONS EXPRESSED IN THE DOCUMENT. IT SHOULD ALSO BE CLEARLY UNDERSTOOD THAT THE ACQUIRER IS PRIMARILY RESPONSIBLE FOR THE CORRECTNESS, ADEQUACY AND DISCLOSURE OF ALL RELEVANT INFORMATION IN THIS DOCUMENT. THE MANAGER TO THE OFFER, NEXT CAPITAL LIMITED IS EXPECTED TO EXERCISE DUE DILIGENCE TO ENSURE THAT THE ACQUIRER DULY DISCHARGES ITS RESPONSIBILITY ADEQUATELY. FOR THIS PURPOSE, THE MANAGER TO THE OFFER HAS SUBMITTED A DUE DILIGENCE CERTIFICATE DATED NOVEMBER 05, 2024 TO THE COMMISSION IN ACCORDANCE WITH PART IX OF THE SECURITIES ACT, 2015."

PART A

BRIEF DESCRIPTION OF THE ACQUISITION

Acquisition through	No. of Shares	Percentage	Price per share
Public Offer	160,762,209	37.86%	PKR 39.00 per share

Note: This public announcement of the offer constitutes a competitive bid from the Acquirer in relation to the public announcement of offer published in the newspapers by Fauji Fertilizer Company Limited ("FFC") on October 25, 2024. FFC's offer aimed to acquire 151,052,013 ordinary shares at a price of PKR 38.84 per share. In response, this public offer is being made at both a higher price and for a larger number of shares. The number of shares offered to be acquired through this competitive bid are also in compliance with regulation 14 of the Regulations.

PART B

1. THE ACQUIRER

1.1. Name and registered address of the Acquirer	Maple Leaf Cement Factory Limited ("MLCF") 42 - Lawrence Road, Lahore																				
1.2. Date and jurisdiction of incorporation	Incorporated on April 13, 1960 at Karachi - Pakistan																				
1.3. The authorized and issued share capital	Authorized share Capital: <table> <tr> <th>Particular</th><th>No. of Shares</th></tr> <tr> <td>Ordinary shares of Rs.10 each</td><td>1,400,000,000</td></tr> <tr> <td>Redeemable cumulative preference shares of Rs.10 each</td><td>100,000,000</td></tr> <tr> <td>Total</td><td>1,500,000,000</td></tr> </table> Issued / Paid up Capital: <table> <tr> <th>Particular</th><th>Paid-up capital</th></tr> <tr> <td>Ordinary shares of Rs.10 each</td><td>1,047,562,608</td></tr> </table>	Particular	No. of Shares	Ordinary shares of Rs.10 each	1,400,000,000	Redeemable cumulative preference shares of Rs.10 each	100,000,000	Total	1,500,000,000	Particular	Paid-up capital	Ordinary shares of Rs.10 each	1,047,562,608								
Particular	No. of Shares																				
Ordinary shares of Rs.10 each	1,400,000,000																				
Redeemable cumulative preference shares of Rs.10 each	100,000,000																				
Total	1,500,000,000																				
Particular	Paid-up capital																				
Ordinary shares of Rs.10 each	1,047,562,608																				
1.4. If there is more than one Acquirer, their relationship	N/A.																				
1.5. Total number of voting shares of the target company already held by the Acquirer and the persons acting in concert, including any shares purchased through an agreement and relevant details of such agreement including the share price agreed	MLCF currently owns 64,450,700 constituting 15.18% of the issued and paid-up ordinary shares capital of AGL of the face value of Rs. 10 each. Maple Leaf Capital Limited ("MLCL"), an associated company of MLCF currently owns 38,670,001 constituting 9.11% of the issued and paid-up ordinary shares capital of AGL ordinary shares of the face value of Rs. 10 each. As of the date of this document, the combined shareholding of MLCF and MLCL stands at 103,120,701 ordinary shares of the face value of Rs. 10 each, constituting 24.28% of the ordinary issued and paid-up capital of AGL.																				
1.6. The number of shares issued since the end of the last financial year of the company	None.																				
1.7. Details of any reorganization of Acquirer during the two financial years preceding the public announcement of public offer	N/A.																				
1.8. Details overdrafts or loans, or their similar indebtedness, mortgages, charges or other material contingent liabilities of the Acquirer and subsidiaries if any and if there are no such liabilities a statement to that effect.	For details, please refer to the audited financial statements placed on the website of the MLCF https://www.kmlg.com/mlcf/financials/#financial-reports wherein information in respect of the Acquirer and its subsidiaries are available.																				
1.9. Financial advisors of the Acquirer	Next Capital Limited																				
1.10. Brief history and major areas of operations of the Acquirer	Maple Leaf Cement Factory Limited ("MLCF") is part of the Kohinoor Maple Leaf Group which is a reputable manufacturer of textile and cement in Pakistan. It also operates in capital markets and has started investing in other sectors of Pakistan including health care. MLCF is the largest single cement production site in Pakistan. Currently, MLCF operates via four production lines for the production of grey cement and one line for white cement. Total installed capacity for clinker production is 7.8 M tons annually. For further details on the major operations of the Acquirer, please visit https://www.kmlg.com/mlcf/																				
1.11. Names and addresses of sponsors or persons having control over the Acquirer	Parent Company: Name: Kohinoor Textile Mills Limited ("KTML") Address: 42-Lawrence Road, Lahore. Ultimate Beneficial Owners: Name: Mr. Taufique Sayeed Saigol Address: House No.01, Kohinoor Colony, Peshawar Road, Rawalpindi Name: Mrs. Shehla Tariq Saigol Address: 12-Main Gulberg, Lahore																				
1.12. Names and addresses of the board of directors of the Acquirer	<table> <tr> <th>Name</th><th>Address</th></tr> <tr> <td>Mr. Tariq Sayeed Saigol</td><td>12-Main Gulberg, Lahore.</td></tr> <tr> <td>Mr. Sayeed Tariq Saigol</td><td>12-Main Gulberg, Lahore.</td></tr> <tr> <td>Mr. Taufique Sayeed Saigol</td><td>House No.01, Kohinoor Colony, Peshawar Road, Rawalpindi.</td></tr> <tr> <td>Mr. Waleed Tariq Saigol</td><td>12-Main Gulberg, Lahore.</td></tr> <tr> <td>Mr. Danial Taufique Saigol</td><td>House No.01, Kohinoor Colony, Peshawar Road, Rawalpindi.</td></tr> <tr> <td>Ms. Jahanara Saigol</td><td>12-Main Gulberg, Lahore.</td></tr> <tr> <td>Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi</td><td>House No. 208-B, Street No. 5, Cavalary Ground, Lahore-Cantt.</td></tr> <tr> <td>Mr. Shafiq Ahmed Khan</td><td>477-Z, Street No. 23, Defence Housing Authority, Lahore.</td></tr> <tr> <td>Mr. Zulfikar Monnoo</td><td>Pakwest Industries (Pvt.) Limited, Ghani Chambers, 1st Floor, 28-29 Patiala Grounds, Link McLeod Road, Lahore.</td></tr> </table>	Name	Address	Mr. Tariq Sayeed Saigol	12-Main Gulberg, Lahore.	Mr. Sayeed Tariq Saigol	12-Main Gulberg, Lahore.	Mr. Taufique Sayeed Saigol	House No.01, Kohinoor Colony, Peshawar Road, Rawalpindi.	Mr. Waleed Tariq Saigol	12-Main Gulberg, Lahore.	Mr. Danial Taufique Saigol	House No.01, Kohinoor Colony, Peshawar Road, Rawalpindi.	Ms. Jahanara Saigol	12-Main Gulberg, Lahore.	Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi	House No. 208-B, Street No. 5, Cavalary Ground, Lahore-Cantt.	Mr. Shafiq Ahmed Khan	477-Z, Street No. 23, Defence Housing Authority, Lahore.	Mr. Zulfikar Monnoo	Pakwest Industries (Pvt.) Limited, Ghani Chambers, 1st Floor, 28-29 Patiala Grounds, Link McLeod Road, Lahore.
Name	Address																				
Mr. Tariq Sayeed Saigol	12-Main Gulberg, Lahore.																				
Mr. Sayeed Tariq Saigol	12-Main Gulberg, Lahore.																				
Mr. Taufique Sayeed Saigol	House No.01, Kohinoor Colony, Peshawar Road, Rawalpindi.																				
Mr. Waleed Tariq Saigol	12-Main Gulberg, Lahore.																				
Mr. Danial Taufique Saigol	House No.01, Kohinoor Colony, Peshawar Road, Rawalpindi.																				
Ms. Jahanara Saigol	12-Main Gulberg, Lahore.																				
Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi	House No. 208-B, Street No. 5, Cavalary Ground, Lahore-Cantt.																				
Mr. Shafiq Ahmed Khan	477-Z, Street No. 23, Defence Housing Authority, Lahore.																				
Mr. Zulfikar Monnoo	Pakwest Industries (Pvt.) Limited, Ghani Chambers, 1st Floor, 28-29 Patiala Grounds, Link McLeod Road, Lahore.																				

1.13. Brief audited financial details of the Acquirer for a period of at least last five years including income, expenditure, profit before depreciation, interest and tax, depreciation, profit before and after tax, provision for tax, dividends, earnings per share, return on net worth and book value per share

Unconsolidated Financial Details (PKR Million)	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	1QFY25
Sales – net	29,118	35,538	48,520	62,075	66,452	15,720
Cost of sales	29,817	28,135	36,244	43,902	45,488	11,041
Gross profit	(699)	7,403	12,275	18,173	20,964	4,679
Distribution, Administration, Impairment and other charges	1,720	2,351	3,408	6,319	8,251	2,118
Other income	132	3,732	57	147	356	49
Profit from operations	(2,287)	8,784	8,925	12,001	13,070	2,610
Finance cost	2,982	1,494	1,741	2,751	4,138	907
Profit/(loss) before taxation	(5,269)	7,290	7,184	9,251	8,931	1,702
Taxation	(426)	1,035	3,557	4,759	3,659	661
Profit/(loss) after taxation	(4,843)	6,254	3,626	4,492	5,273	1,041
Depreciation & Amortization	3,306	3,288	3,234	3,475	4,520	1,091
EBITDA (Earnings before Interest, Tax, Depreciation & Amortization)	976	8,863	13,054	16,517	18,161	3,919
Dividend	-	-	-	-	-	-
Preference Dividend	-	-	-	-	-	-
EPS (PKR)	(5.30)	5.69	3.30	4.18	4.98	0.99
Equity including surplus on revaluation of fixed assets	31,321	37,543	40,559	44,913	52,616	54,311
Surplus on revaluation of fixed assets	3,615	3,090	2,460	1,869	4,015	3,957
Equity excluding surplus on revaluation of fixed assets	27,706	34,453	38,099	43,044	48,601	50,354
Return on net worth/ROE (%) (incl. surplus)	-16%	18%	9%	11%	11%	2%
Return on net worth/ROE (%) (exc. surplus)	-18%	20%	10%	11%	12%	2%
Book Value per Share (PKR) (incl. surplus)	34.26	34.18	36.96	41.84	49.69	51.84
Book Value per Share (PKR) (exc. surplus)	30.30	31.37	34.71	40.10	45.90	48.07

1.14. Details of any agreement or arrangement between the Acquirer and the directors of the target company about any benefit which will be given to any director of the target company as compensation for loss of office or otherwise in connection with the acquisition	N/A.
1.15. Details of every material contract entered into not more than two years before the date of the public announcement of public offer, not being a contract entered into in the ordinary course of business carried on or intended to be carried on by the company	The Acquirer has not entered into any contracts other than the ordinary course of business.

2. ADDITIONAL INFORMATION FOR COMPETITIVE BID - INFORMATION ABOUT THE ACQUIRER / COMPETITIVE BIDDER

2.1. Name(s) and address(es) of acquirer along with persons acting in concert, if any	Acquirer: Maple Leaf Cement Factory Limited ("MLCF") Address: 42 – Lawrence Road, Lahore Acting in Concert: Maple Leaf Capital Limited ("MLCL") Address: 42 – Lawrence Road, Lahore																					
2.2. Name(s) of the ultimate acquirer or the ultimate controlling shareholder	Mr. Taufique Sayeed Saigol Mrs. Shehla Tariq Saigol																					
2.3. Name(s) and address(es) of manager to the offer of the acquirer	Name: Next Capital Limited Address: 2nd Floor, Imperial Court Building, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi, Pakistan																					
2.4. Principal areas of business of the acquirer and relevant experience	Maple Leaf Cement Factory Limited ("MLCF") is part of the Kohinoor Maple Leaf Group which is a reputable manufacturer of textile and cement in Pakistan. It also operates in capital markets and is expanding into other sectors of Pakistan including healthcare. MLCF is the largest single cement production site in Pakistan. Currently, the MLCF operates via four production lines for the production of grey cement and one line for white cement. Total installed capacity for clinker production is 7.8 M tons annually.																					
2.5. In case the acquirer is a fund/ company(s):																						
i. Names of the chief executive and directors of the company(s):	<table><tr><th>Name of Directors</th><th>Position</th></tr><tr><td>Mr. Tariq Sayeed Saigol</td><td>Chairman</td></tr><tr><td>Mr. Sayeed Tariq Saigol</td><td>Chief Executive Officer</td></tr><tr><td>Mr. Taufique Sayeed Saigol</td><td>Director</td></tr><tr><td>Mr. Waleed Tariq Saigol</td><td>Director</td></tr><tr><td>Mr. Danial Taufique Saigol</td><td>Director</td></tr><tr><td>Ms. Jahanara Saigol</td><td>Director</td></tr><tr><td>Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi</td><td>Director</td></tr><tr><td>Mr. Shafiq Ahmed Khan</td><td>Director</td></tr><tr><td>Mr. Zulfikar Monnoo</td><td>Director</td></tr></table>		Name of Directors	Position	Mr. Tariq Sayeed Saigol	Chairman	Mr. Sayeed Tariq Saigol	Chief Executive Officer	Mr. Taufique Sayeed Saigol	Director	Mr. Waleed Tariq Saigol	Director	Mr. Danial Taufique Saigol	Director	Ms. Jahanara Saigol	Director	Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi	Director	Mr. Shafiq Ahmed Khan	Director	Mr. Zulfikar Monnoo	Director
Name of Directors	Position																					
Mr. Tariq Sayeed Saigol	Chairman																					
Mr. Sayeed Tariq Saigol	Chief Executive Officer																					
Mr. Taufique Sayeed Saigol	Director																					
Mr. Waleed Tariq Saigol	Director																					
Mr. Danial Taufique Saigol	Director																					
Ms. Jahanara Saigol	Director																					
Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi	Director																					
Mr. Shafiq Ahmed Khan	Director																					
Mr. Zulfikar Monnoo	Director																					
ii. Names of substantial shareholders of the company	Kohinoor Textile Mills Limited ("KTML") holds 57.90% shares of MLCF.																					
iii. Date of Incorporation	April 13, 1960																					
iv. Jurisdiction of incorporation	Karachi																					
v. Authorized and paid-up capital (as of Sep 30, 2024).	<table><tr><th>Authorized Capital</th><th>No. of Shares</th></tr><tr><td>Ordinary shares of Rs.10 each</td><td>1,400,000,000</td></tr><tr><td>Redeemable cumulative preference shares of Rs.10 each</td><td>100,000,000</td></tr><tr><td>Total</td><td>1,500,000,000</td></tr></table> <table><tr><th>Paid up Capital</th><th>No. of Shares</th></tr><tr><td>Ordinary shares of Rs.10 each</td><td>1,047,562,608</td></tr><tr><td>Total</td><td>1,047,562,608</td></tr></table>		Authorized Capital	No. of Shares	Ordinary shares of Rs.10 each	1,400,000,000	Redeemable cumulative preference shares of Rs.10 each	100,000,000	Total	1,500,000,000	Paid up Capital	No. of Shares	Ordinary shares of Rs.10 each	1,047,562,608	Total	1,047,562,608						
Authorized Capital	No. of Shares																					
Ordinary shares of Rs.10 each	1,400,000,000																					
Redeemable cumulative preference shares of Rs.10 each	100,000,000																					
Total	1,500,000,000																					
Paid up Capital	No. of Shares																					
Ordinary shares of Rs.10 each	1,047,562,608																					
Total	1,047,562,608																					

2.6. Detail of Companies, where the intended acquirer(s) hold more than thirty percent voting shares

Name of Company	Maple Leaf Power Limited	Novacare Hospitals (Private) Limited
Registration No.	0095705	0226010
Nature (Listed / unlisted / Private)	Unlisted	Unlisted
Nature of business	To produce and supply electricity	Healthcare
Jurisdiction of incorporation	Lahore	Islamabad
Description held control/more than thirty % shares or both	100.00%	99.59%

2.7. Information about the ultimate beneficial owner of the intended acquirer(s):

i. Name(s) of the natural person(s), CNIC/Passport Number, nationality and address of each person

Name	Mr. Taufique Sayeed Saigol	Mrs. Shehla Tariq Saigol
CNIC	37405-0436841-7	35202-7112110-2
Nationality	Pakistani	Pakistani
Address	House No.01, Kohinoor Colony, Peshawar Road, Rawalpindi	12-Main Gulberg, Lahore

ii. Detail of companies located in and outside Pakistan, where the ultimate acquirer or the ultimate controlling shareholder held control and or more than thirty percent voting shares:

Name of Company	Registration No.	Nature (Listed/unlisted/Private)	Nature of business	Jurisdiction of incorporation	Description held control/more than thirty % shares or both
Kohinoor Textile Mills Limited	0002805	Listed	Textile Composite	Lahore	76.0550%
Maple Leaf Power Limited	0095705	Unlisted	To produce and supply electricity	Lahore	44.7755%
Novacare Hospitals (Private) Limited	0226010	Unlisted	Healthcare	Islamabad	44.7755%
Maple Leaf Capital Limited	0088025	Unlisted	Investment in securities	Lahore	74.7553%
Mercury Management Inc.	99697	Foreign Company	Investment Company	BVI	100.00%
Hutton Properties Limited	510616	Foreign Company	Investment Company	BVI	100.00%

2.8. Details of any existing holding of voting rights in the target company

i. Which the acquirer owns or over which it has control or direction	MLCF currently owns 64,450,700 ordinary shares, constituting 15.18% of the issued and paid-up ordinary share capital of AGL of the face value of Rs. 10 each.
ii. Which is owned or controlled or directed by any person acting in concert with the acquirer;	MLCL, an associated company of MLCF currently owns 38,670,001 ordinary shares constituting 9.11% of the issued and paid-up ordinary share capital of AGL of the face value of Rs. 10 each. As of the date of this document, the combined shareholding of MLCF and MLCL stands at 103,120,701 ordinary shares constituting 24.28% of the issued and paid-up ordinary share capital of AGL of the face value of Rs. 10 each.
iii. In respect of which the acquirer or any person acting in concert with him has received an irrevocable commitment to accept the takeover offer; and in respect of which the acquirer or any person acting in concert with him holds an option to purchase or warrants or other convertible securities.	None.
2.9. All conditions (including normal conditions relating to acceptance, Listing, and Increase of Capital) to which the public offer or the posting of it is subject.	None.

3. DETAILS OF THE PUBLIC OFFER / COMPETITIVE BID

3.1. The names, dates and editions of the newspapers where the public announcement of intention was published	Public Announcement of Intention was published in Business Recorder and Nawa-e-Waqt on July 29, 2024.
3.2. The number and percentage of shares proposed to be acquired by the Acquirer from the shareholders through agreement, if any, the offer price per share and the mode of payment of consideration for the shares to be acquired	N/A.
3.3. Reasons for acquiring shares or control of the Target Company	The Target Company has an annual production capacity of 433,125 metric tons of urea fertilizer; however, the plant has been operating significantly below its capacity, producing only 292,255 metric tons in the financial year 2023 due to gas curtailments and operational challenges. With a forecasted increase in urea demand, the Acquirer anticipates that the gas supply to the fertilizer sector will improve, enabling the Target Company to increase production and help alleviate the urea shortages experienced in recent sowing seasons. This anticipated boost in domestic production would also reduce the need for urea imports, conserving Pakistan's critical foreign exchange resources.
3.4. Details regarding the future plan for the Target Company, including whether after acquisition the Target Company would continue as a listed company or not	The Target Company's proximity to the Acquirer's existing cement manufacturing facilities is expected to yield operational synergies post-acquisition. The Acquirer also plans to enhance and expand the SSP production of the Target Company, leveraging its established expertise in managing manufacturing operations and its ability to build robust sales, marketing, and distribution networks for comparable products. The Acquirer aims to optimize the Target Company's operations, sales, and marketing efforts through efficient financial resource management. The Acquirer is committed to improving the Target Company's profitability and intends to maintain it as a listed company, putting forth its best efforts to maximize operational and financial performance.
3.5. In case of conditional offer, specify the minimum level of acceptance i.e. number and percentage of shares	N/A.
3.6. In case there is any agreement with the present management, promoters or existing shareholders of the Target Company, an overview of the important features of the agreement(s) including acquisition price per share, number and percentage of shares to be acquired under the agreement(s), name of the seller(s), complete addresses of sellers, names of parties to, the agreement(s), date of agreement(s), manner of payment of consideration, additional important information, if any.	N/A.
3.7. Number of shares already held by the Acquirer along with the date(s) of acquisition. Also state whether it was purchased through open market or acquired through a negotiated deal.	MLCF currently owns 64,450,700 ordinary shares constituting 15.18% of the issued and paid-up ordinary share capital of AGL of the face value of Rs. 10 each. Out of these ordinary shares, 59,844,240 ordinary shares were purchased through open market during March 2024 to November 2024 and 4,606,460 shares were purchased through Negotiated Market Deal (NDM) from the Bank of Punjab on 18 October 2024. MLCL, an associated company of MLCF currently owns 38,670,001 ordinary shares of the face value of Rs. 10 each. These ordinary shares were purchased through open market during March 2022 to July 2023. As of the date of this document, the combined shareholding of MLCF and MLCL stands at 103,120,701 ordinary shares

3.8. Minimum level of acceptance, if any	N/A.
4. OFFER PRICE AND FINANCIAL ARRANGEMENTS	
4.1. Justification for the Offer Price	
4.1.1. Form of consideration for the shares to be acquired through the Public Offer	Shares will be acquired against cash payment by means of Bank transfer / Pay Order / Cheque in PKR.
4.1.2. Total amount of consideration to be paid for the shares to be tendered through the Public Offer (assuming full acceptances)	PKR 6,269,726,151/- (Pak Rupees Six Billion Two Hundred Sixty-Nine Million Seven Hundred Twenty-Six Thousand One Hundred Fifty-One only).
4.1.3. Whether the shares of the Target Company are frequently traded or infrequently traded in the light of criteria contained in Regulation 13 of the Regulations	The shares of the Target Company are frequently traded on Pakistan Stock Exchange Limited.
4.1.4. Justification for the offer price for the shares of the Target Company, in the light of criteria contained in Regulation 13 of the Regulations	Since the shares of the Target Company are frequently traded, the public announcement of offer is required to be at the price which is highest amongst the following: 1. The negotiated weighted average price under a share purchase agreement for the acquisition of voting shares of the target company: Not Applicable 2. The highest price paid by the acquirer for acquiring the voting shares of target company during the 180 days preceding the date of public announcement of public offer: PKR 39.00/- per share 3. The weighted average share price of target company on the securities exchange during the 180 days preceding the date of public announcement of public offer: PKR 27.76/- per share 4. The weighted average share price of target company on the securities exchange during 28 trading days preceding the date of public announcement of intention and only those days shall be taken into account on which the shares of the target company have been traded: PKR 23.32/- per share The highest price amongst the above is PKR 39.00/- per share while the public offer by Fauji Fertilizer Company Limited ("FFC") dated October 25, 2024 was made at a price of PKR 38.84/- per share. Therefore, this competitive bid by MLCF to acquire ordinary shares under this Public Offer is made at a price of PKR 39.00/- per share which is higher than the price offered by FFC and is also the highest amongst the above four criteria.
4.2. Financial Arrangements	
4.2.1. Disclosure about the security arrangement made in pursuance of Section 123 of the Securities Act, 2015.	As per Reg 15(1)(c) of the Regulations, the Acquirer has created the security in the form of Bank Guarantee amounting to PKR 6,320 million to the Manager to the Offer.
4.2.2. Disclosure about the adequate and firm financial resources to fulfill the obligations under the Public Offer.	The Acquirer has made adequate financial arrangements for fulfillment of its obligations under the Public Offer to the satisfaction of the Manager to the Offer. If the Acquirer fails to pay in response to the Public Offer as required under the Act and the Regulations, the Manager to the Offer can withdraw and/or sell all the Security to meet the payment obligations of the Acquirer under the Public Offer to the shareholders who will tender their shares in response to the Public Offer.
4.2.3. A statement by the Manager to the Offer that the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirer to implement the Public Offer in accordance with the requirements of the Act and the Regulations	Next Capital Limited, being the Manager to the Offer is satisfied about the ability of the Acquirer to implement the Public Offer in accordance with the requirements of the Act and the Regulations. Moreover, Next Capital Limited has also issued a due diligence certificate in this regard.
5. PROCEDURE FOR ACCEPTANCE AND SETTLEMENT	
5.1. Detailed procedure for acceptance of public offer by shareholder of the Target Company	1. Offer Letters will be sent to all the shareholders (except the Acquirer and person acting in concert) whose names will appear on the register of members on the Book Closure dates to be announced by the Target Company to determine the eligibility of the persons to receive the Offer Letter under this Public Offer. 2. In order to accept the Public Offer, the shareholders are required to send the Letter of Acceptance (attached to the Offer Letter), duly completed and signed, along with the requisite documents (as set out below) to the Manager to the Offer at its registered address i.e., Next Capital Limited, 2nd Floor Imperial Court Building, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi, Pakistan on or before 5:00 pm on Saturday, January 04, 2025 ("Closing Date"). The shareholder(s) needs to ensure that the Acceptance Letter is duly filled and signed in full. 3. In the event that the Letter of Acceptance and the requisite information are delivered within the stipulated time, the Manager to the Offer will issue confirmation of the receipt of documents (Provisional Receipt). 4. Receipt by the Manager to the Offer by the Closing Date of the duly completed and signed Letter of Acceptance along with the required documents will constitute acceptance of the application, subject to Clause 5.4 below. 5. Completed Letters of Acceptance once submitted cannot be revoked by shareholders selling in the Public Offer. 6. The Public Offer will remain open for acceptance for seven days (starting from 9:00 A.M. PST on Sunday, December 29, 2024 to 5:00 P.M. PST on Saturday, January 04, 2025). Acceptances received after working hours on Closing Date shall not be entertained and the acceptance period shall not be extended. 7. Copies of the Letter of Acceptance shall also be available at the registered office of Next Capital Limited (address provided above) or on its website i.e. https://www.nextcapital.com.pk/
5.2. Details of the CDC account in which shares are required to be tendered by eligible shareholders on acceptance during the acceptance period	CDC account holders shall follow the procedure set forth above, as applicable. Additionally, CDC account holders must transfer their shares to the designated CDC Account of Manager to the Offer. CDC Account Holders shall provide CDC transfer slip to the Manager to the Offer, with respect to transfer of shares. Further, CDC shareholders will be allowed to email the Acceptance Form and requisite documents to cf@nextcapital.com.pk instead of dispatching the hard copies to the address of the Manager to the Offer. CDC Account Details CDC Account Title: Manager to the Offer - Agritech Limited CDC Participant ID: 12484 CDC Account No: 37853 UIN: 0001107 Transaction Reason Codes: For Intra Account: A021 For Inter Account: P015
5.3. Physical Shares	In case of physical shares, shareholders may accept the offer by delivering the duly filled and signed Acceptance Letter along with physical share certificates, duly verified transfer deed(s) and other required documents (as stipulated in the Offer Letter) by courier or by hand to the Manager to the Offer, latest by 5:00 pm on the Closing Date. Shareholders must ensure that the courier is received by the Manager to the Offer on or before the Closing Date. The excess shares (if any) will need to be collected in person (or by an authorized representative) from the Manager to the Offer's address during 9 am to 5pm. If shareholders want the shares to be couriered, at their risk, they are required to mark as such on the Acceptance Letter.

5.4. Required Documents	The Letter of Acceptance must be accompanied by the following documents: For Individual Applicants: • An attested copy of CNIC (for all shareholders) • Copy of CDC transfer slip submitted with CDC investor account services (for CDC shareholders only) • Original share certificates (for physical shareholders only) • Duly executed transfer deeds recently verified by CDC (for physical shareholders only) • Duly completed and signed authorization to split share(s) certificate letter (for physical shareholders only) For Corporate Applicants: • Memorandum and Articles of Association • Certified copy of certificate of incorporation (and for public companies, certificate of commencement of business) • Certified copies of CNICs of signatories • Certified copy of board resolution authorizing persons to sell the shares with specimen signatures of such authorized persons • Copy of CDC transfer slip submitted with CDC investor account services (for CDC shareholders only) • Original share certificates (for physical shareholders only) • Duly executed transfer deeds recently verified by CDC (for physical shareholders only) • Duly completed and signed authorization to split share(s) certificate letter (for physical shareholders only) <i>Letter of Acceptance furnished by the shareholder(s) without the requisite documents may be rejected by the Manager to the Offer as being incomplete and invalid.</i>
5.5. Acceptance by the Acquirer	Shares successfully tendered in the manner described above will be acquired by the Acquirer free from all liens, charges, and encumbrances and with all rights attaching to and / or deriving from them, including the right to receive all dividends, any other distributions declared, made or paid and/or any entitlement to subscribe for or receive any securities resolved by the Target Company to be issued to the members of the Target Company pro rata to their holdings of shares or otherwise. In the event, the number of shares offered for sale by the shareholders are more than the shares offered to be acquired by the Acquirer, the Acquirer shall, in consultation with the Manager to the Offer, accept the public offer or offers received from the shareholders on a proportional basis as prescribed by clause 112(2) of the Act and the excess surrendered shares for each shareholder shall be returned / re-transferred (as the case may be) to the relevant shareholder. The acceptance by the Acquirer of the shares tendered by the selling shareholders and payment of the offer price is subject to the following conditions: • The Securities and Exchange Commission of Pakistan or any other competent authority having no objections to any of the provisions of the Public Offer. • The payment for shares does not contravene any section of the Foreign Exchange Regulation Act, 1947 and the Foreign Exchange Manual of the State Bank of Pakistan. • The Letter of Acceptance being duly completed and signed along with the required documents and submitted to the Manager to the Offer on or before the Closing Date. • The tendered shares being verified by the Target Company. • The Acquirer not withdrawing the Public Offer in accordance with the provisions of the Act.
5.6. Payment of the Offer Price	Upon receipt of duly filled Letter of Acceptance along with the requisite documents, the Manager to the Offer will send written acceptances of the tender (along with the Pakistani Rupee crossed cheque or pay order in favor of the shareholder where applicable) within ten (10) days of the Closing Date. No interest, mark-up, surcharge or other increment will be payable for any cause or reason on the aggregate price for the shares purchased by the Acquirer from any selling shareholder.

6. STATEMENTS BY THE ACQUIRER

6.1. Applicable Law	The Public Offer shall be governed by the provisions of Part IX of the Securities Act, 2015 and the Listed Companies (Substantial Acquisition of Voting Shares and Takeovers) Regulations, 2017. Shareholders should not construe the content of this document as legal, tax or financial advice and should consult their own advisors as to the matters described in this Offer.
6.2. Statement by the Acquirer for assuming responsibility for the information contained in this document	Directors of the Acquirer assume responsibility for the information contained in this document.
6.3. A statement by the Acquirer to the effect that each of the Acquirers including persons in concert, if any, will be severally and jointly responsible for ensuring compliance with the Act and the Regulations	The Acquirer assumes responsibility for ensuring compliance with the Act and the Regulations.
6.4. A statement by the Acquirer that the Public Offer is being made to all the shareholders who have voting shares of the Target Company and (except the persons acting in concert with Acquirer) whose names appear in the register of shareholders as on the date of book closure	The Acquirer confirms that this Public Offer is being made to all the shareholders who have voting ordinary shares of the Target Company (except the person acting in concert with Acquirer) and whose names appear in the register of shareholders as on the date of book closure to be announced by the Target Company for this purpose.
6.5. A statement by the Acquirer that all statutory approvals for the Public Offer have been obtained	The Acquirer confirms that all statutory approvals for the Public Offer as required under the Act and the Regulations have been obtained.
6.6. Disclosure as to whether relevant provisions of the Act and the Regulations have been complied with.	The Acquirer confirms that all relevant provisions of the Act and the Regulations have been complied with.
6.7. A statement to the fact if any director(s) of the Acquirer is also a director on the board of directors of Target Company	Mr. Syed Mohsin Raza Naqvi is serving as a director on the board of the Acquirer as well as on the board of the Target Company.
6.8. A statement by the Acquirer as to whether or not any voting shares acquired in pursuance to the Public Offer shall be transferred to another person and if that is the case the names of such persons shall be disclosed	The Acquirer confirms that voting common shares acquired in pursuance of the Public Offer are not intended to be transferred to any other person except as may be transferred to the nominees of the Acquirer to be appointed/ co-opted on the board of directors of the Target Company.

The foregoing information and copies of the Letter of Acceptance shall also be available at www.nextcapital.com.pk

7. ENQUIRIES

All queries and correspondence relating to this Public Offer should be addressed to the Manager to the Offer at the following address:

Investment Banking Team, Next Capital Limited

2nd Floor Imperial Court Building, Dr. Ziauddin Ahmed Road, Karachi, Pakistan.

Contact: +92 21 3522 2207

Email: cf@nextcapital.com.pk

For and on behalf of Maple Leaf Cement Factory Limited

ZEESHAN AHMAD
GENERAL MANAGER FINANCE

42- لارنس روڈ، لاہور (پاکستان)

یہ شیعہ زبان تک کا خاطر خواہ حصول، ۲۰۱۷ء ("گیلیشہ") کے تحت میلا، الف سینٹ فیلڈ، ایڈیٹر

الأعلاق

پارٹ A

حصہ کا ذریعہ	حصہ کی تعداد	فیصد	قیمت فی حصہ
عوامی پیشکش	160,762,209	37.86%	39.00 روپے فی حصہ

پارٹ B

1.1. حاصل کنندہ کا نام اور مندرجہ ذیل پتہ	انجیل ایف سیٹ سیکنڈری لیجنڈ (ایم ایٹل سی ایف ") 42- لارنس روڈ، لاہور								
1.2. قیام کی تاریخ اور دائرہ اختیار	13 اپریل 1960ء کو کراچی میں قائم ہوئی۔								
1.3. مجاز اور جاری شدہ حصص	مجاز حصص سرمایہ:								
	<table border="1"> <tr> <th>تفصیلات</th> <th>حصص کی تعداد</th> </tr> <tr> <td>ہر ایک 10 روپے کے عام حصص</td> <td>1,400,000,000</td> </tr> <tr> <td>ہر ایک 10 روپے کے قابل طائفانہ مجموعی ترجیحی حصص</td> <td>100,000,000</td> </tr> <tr> <td>کل</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> </table>	تفصیلات	حصص کی تعداد	ہر ایک 10 روپے کے عام حصص	1,400,000,000	ہر ایک 10 روپے کے قابل طائفانہ مجموعی ترجیحی حصص	100,000,000	کل	1,500,000,000
تفصیلات	حصص کی تعداد								
ہر ایک 10 روپے کے عام حصص	1,400,000,000								
ہر ایک 10 روپے کے قابل طائفانہ مجموعی ترجیحی حصص	100,000,000								
کل	1,500,000,000								
	جاری شدہ / ادا شدہ سرمایہ:								
	<table border="1"> <tr> <th>تفصیل</th> <th>ادا شدہ سرمایہ</th> </tr> <tr> <td>ہر ایک 10 روپے کے عام حصص</td> <td>1,047,562,608</td> </tr> </table>	تفصیل	ادا شدہ سرمایہ	ہر ایک 10 روپے کے عام حصص	1,047,562,608				
تفصیل	ادا شدہ سرمایہ								
ہر ایک 10 روپے کے عام حصص	1,047,562,608								

1.4 اگر ایک سے زیادہ حاصل کنندہ ہوں تو ان کا تعلق	N/A
1.5 حاصل کنندہ اور حلفاء افراد کے پاس پہلے سے موجود گھنٹہ گنتی کے دو گنٹہ حصص کی کل تعداد بشمول معاہدہ کے ذریعے خریدے گئے کوئی بھی حصص اور اس طرح کے معاہدہ کی متعلقہ تفصیلات بشمول طے شدہ حصص کی قیمت	ایم ایل سی ایف اس وقت 64,450,700 حصص کی مالک ہے جو اسے ایم سی ایل کے ہر ایک 10 روپے کی فیس قیمت کے جاری کردہ اور داشرہ عام حصص سرمایہ 15.18 فیصد ہوتا ہے۔ مبلی ٹیپ سسٹم لینڈ ("ایم ایل سی ایل") ایم ایل سی ایف کی شریک کمپنی ہے جو اس وقت 38,670,001 حصص کی مالک ہے جو اسے ایم سی ایل کے ہر ایک 10 روپے کی فیس قیمت کے جاری کردہ اور داشرہ عام حصص سرمایہ 9.11 فیصد ہے۔ اس وقت ایس کی تاریخ تک ایم ایل سی ایف اور ایم سی ایل کی مشترکہ مشترکہ ہولڈنگ ہر ایک 10 روپے کی فیس قیمت کے 103,120,701 عام حصص ہے، جو اسے ایم سی ایل کے عام جاری کردہ اور داشرہ سرمایہ 24.28 فیصد ہوتا ہے۔

1.6. کھیتی کے ترقیاتی مالی سال کے اختتام کے بعد جاری کردہ شخص کی تعداد	کوئی نہیں
1.7. عوامی پیشکش کے عام اعلان سے پہلے دو مالی سالوں کے دوران حاصل شدہ کسی بھی	N/A

1.8. حاصل کنندہ ہمارے اداروں کے ادارہ رافیس یا قرضوں کی تفصیلات، یا اس طرح کے قرضوں، زمین، جائیداد یا دیگر مادی یا اجابت کی تفصیلات اگر کوئی ہوں اور اگر ایسی ذمہ داریاں ہیں ہوں تو اس کا انکشاف کیا جائے۔	تفصیلات کے لئے، براؤزر مایم ایس ای ایف کی ویب سائٹ https://www.kmlg.com/mlcf/financials/#financial-reports پر کلک کر کے آؤٹ شدہ مالی کوٹوارے ملاحظہ فرمائیں جس میں حاصل کنندہ اور اس کے ماتحت اداروں کے بارے میں معلومات دستیاب ہیں۔
---	---

1.9. حاصل کنندہ کے مالی مشیر	نیکیت کپور، پرنسپل
1.10. حاصل کنندہ کی پختہ تاریخ اور جہز کے اہم شعبے	مہمل لیف سیرجیٹ کپور، لیف جنرل (پ) اور کوہنمل لیف گروپ کا حصہ ہے جو پاکستان میں جنگی اسٹاک اور سروس کا ایک

معروف میڈیوٹر جی آر۔ یہ میٹل مارکیٹس کی کام کرتا ہے اور صحت کی دیکھ بھال سمیت پاکستان کے دیگر مریضوں میں سہ ماہی کا ری شروع کر چکا ہے۔ ایم ایل ای الیف پاکستان میں سینٹ کی سب سے بڑی واحد پروڈکشن سائٹ ہے۔ فی الحال، ایم ایل ای الیف مگرے میں سینٹ کی پیداوار کے لئے چار ہزار اداری لائوں اور سفید سینٹ کے لئے ایک لاکھ کے ذریعے کام کرتا ہے۔ ٹھنڈی پیداوار کے لئے اسے اضافی شہہ صلاحیت 7.8 ملین ٹن سالانہ ہے۔

حاصل کنندہ کے نام پر پیشہ کے بارے میں مزید تفصیلات کے لئے، براہ مہربانی <https://www.kmlg.com/mlcfl/> ملاحظہ کریں۔

11.11.19 سالنر زاپا ایسے افراد کے نام اور ایڈریس جن کا حاصل کنندہ پرنسٹون وی ہے

میرٹھ کھنڈی
 نام: کوہنور کھنڈی صاحب ملوی پٹنہ (کے بی ایم اے)
 ایڈریس: 42- لارنس روڈ، لاہور۔
 تعلق: پٹنہ ضلع، پاکستان
 نام: جناب توفیق سعید بھٹی
 ایڈریس: ہاؤس نمبر 01، کوہنور کالونی، پٹنہ روڈ، راولپنڈی
 نام: محترمہ شہلا طارق بھٹی
 ایڈریس: 12، تین گلیز، لاہور

نام	پیچہ
جناب طارق سعید سہگل	12- مین گلبرگ، لاہور۔
جناب سعید طارق سہگل	12- مین گلبرگ، لاہور۔
جناب توقیع سعید سہگل	ہاؤس نمبر 01، کوہ نور کالونی، پشاور روڈ، راولپنڈی۔
جناب ولید طارق سہگل	12- مین گلبرگ، لاہور۔
جناب دانیال توقیع سہگل	ہاؤس نمبر 01، کوہ نور کالونی، پشاور روڈ، راولپنڈی۔

جناب واپید طارق سہیل	12- مین مینجر، لاہور۔
جناب دانیال توقیع سہیل	ہاؤس نمبر 01، کوئٹہ کالونی، پشاور روڈ، راولپنڈی۔
جناب جہان آرا سہیل	12- مین مینجر، لاہور۔
جناب سعید حسن رضا نقوی	ہاؤس نمبر 208، پی، اسٹریٹ نمبر 5، کیو بی گراؤنڈ، لاہور کینٹ۔
جناب شفیق احمد خان	477- زلیہ، اسٹریٹ نمبر 23، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، لاہور۔
جناب ذوالفقار منو	پاک ویسٹ انڈسٹریز (پرائیویٹ) لمیٹڈ، جی جی پی، فرسٹ فلور، 28-29 چیمبر گراؤنڈ، راولپنڈی، لاہور۔

1.13. کم از کم کوئی پانچ سال کی مدت کے لئے حاصل کنندہ کی مختصر آڈٹ شدہ مالی تفصیلات بشمول آمدنی، اخراجات، قدر میں کمی سے پہلے منافع، سود اور ٹیکس، قدر میں کمی ٹیکس سے پہلے اور بعد کا منافع ٹیکس کی فراہمی منافع منہس، مالی حصص آمدنی، خالص مالیت پر منافع اور فی حصص بک ویلوشن شامل ہیں۔

غیر روڈ مالی تفصیلات (ملین روپے)	مالی سال 20	مالی سال 21	مالی سال 22	مالی سال 23	مالی سال 24	مالی سال 25 تکلی سہ ماہی
فروخت۔ خالص	29,118	35,538	48,520	62,075	66,452	15,720
فروخت کی لاگت	29,817	28,135	36,244	43,902	45,488	11,041
مجموعی منافع	(699)	7,403	12,275	18,173	20,964	4,679
ڈسٹری بیوٹن، انتظامی، انتخابی منہس اور دیگر چارجز	1,720	2,351	3,408	6,319	8,251	2,118
دیگہ آمدنی	132	3,732	57	147	356	49
آپریٹو سے منافع	(2,287)	8,784	8,925	12,001	13,070	2,610
مالی لاگت	2,982	1,494	1,741	2,751	4,138	907
ٹیکس سے پہلے منافع / (تقصان)	(5,269)	7,290	7,184	9,251	8,931	1,702
ٹیکس	(426)	1,035	3,557	4,759	3,659	661
ٹیکس کے بعد منافع / (تقصان)	(4,843)	6,254	3,626	4,492	5,273	1,041
قدر میں کمی اور تحفیض	3,306	3,288	3,234	3,475	4,520	1,091
DEBITDA سود ٹیکس قدر میں کمی اور تحفیض سے پہلے آمدنی	976	8,863	13,054	16,517	18,161	3,919
منافع منہس	-	-	-	-	-	-
ترجیحی منافع منہس	-	-	-	-	-	-
EPS (پاکستانی روپے)	(5.30)	5.69	3.30	4.18	4.98	0.99
گنڈہ اثاثوں کی دوبارہ تقسیم پر مرٹس سیٹ ایکوٹی	31,321	37,543	40,559	44,913	52,616	54,311
گنڈہ اثاثوں کی دوبارہ تقسیم پر مرٹس	3,615	3,090	2,460	1,869	4,015	3,957
گنڈہ اثاثوں کی دوبارہ تقسیم پر مرٹس کے علاوہ ایکوٹی	27,706	34,453	38,099	43,044	48,601	50,354
خالص ایلٹ / ROE (%) پر منافع (مرٹس سیٹ)	-16%	18%	9%	11%	11%	2%
خالص ایلٹ / ROE (%) پر منافع (مرٹس کے علاوہ)	-18%	20%	10%	11%	12%	2%
بک ویلوشن شیئر (پاکستانی روپے) (مرٹس سیٹ)	34.26	34.18	36.96	41.84	49.69	51.84
بک ویلوشن شیئر (پاکستانی روپے) (مرٹس کے علاوہ)	30.30	31.37	34.71	40.10	45.90	48.07

1.14. حاصل کنندہ اور ڈائریکٹرز کے ذریعہ ایسے قائمہ کے بارے میں کسی معاہدے یا انتظام کی تفصیلات جو ڈائریکٹرز کے ذریعہ یا کسی بھی ذریعہ کے ذریعہ ہمارے ختم ہو چکے معاہدے کے طور پر یا حصول کے سلسلے میں دیا جائے گا۔

1.15. عوامی پیشکش کے حوالہ دہان کی تاریخ سے دو سال پہلے کے ہر مالی معاہدے کی تفصیلات جو کہ کسی بھی طرف سے جاری یا انجام دیے جانے والے کاروبار کے عام حاصل کنندہ کے کاروبار کے عام معمول کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہے یا ارادہ نہیں ہے۔

2. سابق بولی کی اضافی معلومات - خریدار اس سابق بولی دہندگان کے بارے میں معلومات

2.1. متعلقہ افراد کے ساتھ ساتھ حاصل کنندہ کے نام اور ایڈریس، اگر کوئی ہوں	حاصل کنندہ: پمپل ایف سینٹ جیمز لیڈ (ایم ایل سی ایف) ایڈریس: 42- لارنس روڈ، لاہور
2.2. حتمی حاصل کنندہ یا حتمی کنٹرولنگ شیئر ہولڈر کے نام	متعلقہ: پمپل ایف سینٹ جیمز لیڈ (ایم ایل سی ایف) ایڈریس: 42- لارنس روڈ، لاہور
2.3. حاصل کنندہ پیشکش میں حصہ کا نام اور پتہ	جناب توقیع سعید سہیل محترمہ شہلا طارق سہیل
2.4. حاصل کنندہ کے کاروبار کے اہم شعبے اور متعلقہ تجربہ	ہم ایکٹ پمپل لیڈ ایڈریس: دوسری منزل، امپیریل کورٹ بلاک، ڈاکٹر فیاض الدین احمد روڈ، کراچی، پاکستان

2.5. اگر حاصل کنندہ ایک فیڈ بک دیتی ہے تو:	آپ کوئی کے چیف ایگزیکٹو اور ڈائریکٹرز کے نام:
ذریعہ	نام
جناب طارق سعید سہیل	جناب طارق سعید سہیل
جناب سعید طارق سہیل	جناب سعید طارق سہیل
جناب توقیع سعید سہیل	جناب توقیع سعید سہیل
جناب واپید طارق سہیل	جناب واپید طارق سہیل
جناب دانیال توقیع سہیل	جناب دانیال توقیع سہیل
محترمہ جہان آرا سہیل	محترمہ جہان آرا سہیل
جناب سعید حسن رضا نقوی	جناب سعید حسن رضا نقوی
جناب شفیق احمد خان	جناب شفیق احمد خان
جناب ذوالفقار منو	جناب ذوالفقار منو

ii۔ کپنی کے تمام حصص داروں کے نام	کوڈورنگ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ (کے پی ایم ایل) ایم ایل سی ایف کے 57.90 فیصد حصص کی مالک ہے۔
iii۔ قیام کی تاریخ	13 اپریل 1960
iv۔ قیام کا دائرہ اختیار	کراچی

v۔ جائز اور ادا شدہ سرمایہ (30 ستمبر 2024 تک)۔	
جائز سرمایہ	حصص کی تعداد
ہر ایک 10 روپے کے عام حصص	1,400,000,000
ہر ایک 10 روپے کے قابل ضمانتی مجموعی ترجیحی حصص	100,000,000
کل	1,500,000,000
ادا شدہ سرمایہ	حصص کی تعداد
ہر ایک 10 روپے کے عام حصص	1,047,562,608
کل	1,047,562,608

2.6 ان کمپنیوں کی تفصیلات، جہاں خواہشمند حاصل کنندہ تین فیصد سے زیادہ ورنگ حصص رکھتا ہے	کمپنی کا نام	میکل ایف پاور لمیٹڈ	نوڈائیٹر ہسپتال (پرائیویٹ) لمیٹڈ
	رجسٹریشن نمبر	0095705	0226010
	نوعیت (درج شدہ/غیر درج شدہ/مختلط)	غیر درج شدہ	غیر درج شدہ
	کاروباری نوعیت	تجارتی کی پیو اور ادارہ فراہمی	صحت
	قیام کا دائرہ اختیار	لاہور	اسلام آباد
	کنٹرول انہیں فیصد سے زیادہ حصص یافتہوں کے کنٹرول میں	100.00%	99.59%

2.7 خواہشمند حاصل کنندہ کے حتمی نامہ مندرجہ ذیل کے بارے میں معلومات:	نام	جناب تونسہ سعید بھنگل	سز شہلا طارق بھنگل
	سی این آئی سی	37405-0436841-7	35202-7112110-2
	قومیت	پاکستانی	پاکستانی
	پتہ	ہاؤس نمبر 01، کوڈورنگ لائیو، پشاور روڈ، راولپنڈی	12-مین گلبرگ، لاہور

iii۔ پاکستان کے اندر بارہ پراچ کمپنیوں کی تفصیل، جہاں حتمی حاصل کنندہ یا کنٹرولنگ شیئر ہولڈر کے پاس کنٹرول اور تین فیصد سے زیادہ ورنگ شیئرز تھے:	کمپنی کا نام	رجسٹریشن نمبر	نوعیت (درج شدہ/غیر درج شدہ/مختلط)	کاروباری نوعیت	قیام کا دائرہ اختیار	کنٹرول انہیں فیصد سے زیادہ حصص یافتہوں کے کنٹرول میں
	کوڈورنگ ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ	0002805	درج شدہ	ٹیکسٹائل میٹریٹ	لاہور	76.0550%
	میکل ایف پاور لمیٹڈ	0095705	غیر درج شدہ	تجارتی کی پیو اور ادارہ فراہمی	لاہور	44.7755%
	نوڈائیٹر ہسپتال (پرائیویٹ) لمیٹڈ	0226010	غیر درج شدہ	صحت	اسلام آباد	44.7755%
	میکل ایف کنسولٹنٹس لمیٹڈ	0088025	غیر درج شدہ	سیکورٹیز میں سرمایہ کاری	لاہور	74.7553%
	مرکزی جنینٹ انکارپوریشن	99697	غیر ملکی کمپنی	سرمایہ کاری کمپنی	BVI	100.00%
	بٹن پراپرٹیز لمیٹڈ	510616	غیر ملکی کمپنی	سرمایہ کاری کمپنی	BVI	100.00%

2.8 ہارٹ کپنی میں ورنگ کے حقوق کے کسی بھی موجودہ حصص کی تفصیلات	ایم ایل سی ایف اس وقت 64,450,700 عام حصص کی مالک ہے، جو اے پی ایل کے ہر ایک 10 روپے کی قیمت کے جاری کردہ اور ادا شدہ عام حصص کے سرمایہ کا 15.18 فیصد بنتا ہے۔
iii۔ جو حاصل کنندہ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے کسی بھی شخص کی ملکیت یا کنٹرول یا ڈائریکشن میں ہے۔	ایم ایل سی ایف کی جو مالک ایم ایل سی ایف کی شریک کمپنی ہے۔ اس وقت 38,670,001 عام حصص کی مالک ہے جو اے پی ایل کے ہر ایک 10 روپے کی قیمت کے جاری کردہ اور ادا شدہ عام حصص کے سرمایہ کا 9.11 فیصد بنتا ہے۔ اس کے علاوہ، ایف سی ایف ایم ایل سی ایف اور ایم ایل سی ایف کی مشترکہ شیئر ہولڈنگ 103,120,701 عام حصص ہے جو اے پی ایل کے ہر ایک 10 روپے کی قیمت کے جاری کردہ اور ادا شدہ عام حصص کے سرمایہ کا 24.28 فیصد بنتا ہے۔
iii۔ جس کے سلسلے میں حاصل کنندہ یا اس کے ساتھ مل کر کام کرنے والے کسی بھی شخص کو قبضے کی پیشکش قبول کرنے کا قابل شخص وعدہ ملا ہے۔ اور جس کے سلسلے میں حاصل کنندہ یا اس کے ساتھ کنٹریٹ کرنے والے کوئی بھی شخص خریداری یا وراثت یا دیگر کنٹرول سیکورٹیز خریدنے یا وراثت دینے کا اختیار رکھتا ہے۔	کوئی نہیں
2.9 وہ تمام حالات (مثول نوعیت فہرست بندی اور سرائے میں اضافے سے متعلق عام حالات) جن کے تحت عوامی پیشکش یا اس کی پوسٹنگ شرط ہے۔	کوئی نہیں

3.1 ان اخبارات کے نام بتائیں اور ایف سی ایف جہاں ارادہ کا اعلان شائع کیا گیا تھا	ارادہ کا اعلان پرنس، پکارڈ اور نوائے وقت میں 29 جولائی 2024 کو شائع ہوا۔
3.2 حاصل کنندہ کی جانب سے شیئر ہولڈرز سے معاہدے کے ذریعے حاصل کیے جانے والے حصص کی تعداد اور فیصد، اگر کوئی ہو تو، فی حصص کی پیشکش قیمت اور حاصل کیے جانے والے حصص کے لئے زیر غور ادائیگی کا طریقہ	N/A
3.3 ہارٹ کپنی کے حصص یا کنٹرول حاصل کرنے کی وجوہات	ہارٹ کپنی کے پاس پوریا کھاد کی سالانہ صلاحیت 433,125 میٹرک ٹن ہے۔ ہم نے پلانٹ اپنی صلاحیت سے کافی کم کام کر رہے ہیں اور مالی سال 2023 میں گیس کی اور آپریشن چیلنجز کی وجہ سے صرف 292,255 میٹرک ٹن کھاد بنائی ہے۔ پوریا کی طلب میں متوقع اضافے کے ساتھ، حاصل کنندہ کو توقع ہے کہ کھاد کے شعبے کو گیس کی فراہمی میں بہتری آئے گی، جس سے ہارٹ کپنی کو پوریا میں اضافہ کرنے اور حالیہ پوریا کے موسم میں پوریا کی قیمت کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ پوریا اور اس میں متوقع اضافے سے پوریا کی درآمدات کی ضرورت بھی کم ہو جائے گی جس سے پاکستان کے کم از کم مہاراج کے وسائل کی بچت ہوگی۔

وساں کی قیمت ہوگی۔

توقع ہے کہ حصول کے بعد کارگرت کھیتی کی محصولی کنندگی موجودہ سب سے زیادہ قیمت کے قریب سے آگے بڑھے گی۔
آگے بڑھنے والی۔ حاصل کنندہ کارگرت کھیتی کی انٹرنیشنل پیسہ ادارہ کو جانے اور دوسرے دینے کا بھی ارادہ رکھتا ہے،
میوہ پھل کے پیکر کے انتظام میں اس کی قائم بہارت اور سوارزہ مصنوعات کے لئے میٹروپولیٹن مارکیٹنگ اور سٹوری
ڈیوٹنٹ روک ہائے کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حاصل کنندہ کا مقصد مؤثر مالیاتی وسائل کے انتظام کے ذریعے
کارگرت کھیتی کے آئینہ نگار اور مارکیٹنگ کی کوششوں کو بہتر بنانا ہے۔
حاصل کنندہ کارگرت کھیتی کے منافع کو بہتر بنانے کے لئے پرمز ہے اور اسے ایک سلا کھیتی کے طور پر برقرار رکھنے کا ارادہ
رکھتا ہے۔ آگے بڑھنے والی کارگرت کی کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لئے اپنی بہترین کوششوں کی پیشکش کرتا ہے۔

3.4. کارگرت کھیتی کے مستقبل کے منصوبے کے بارے میں تفصیلات بشمول حصول کے بعد کارگرت کھیتی ایک
لہجہ کھیتی کے طور پر جاری رہے گی یا نہیں

3.5. مشرورہ پیشکش کی صورت میں، قبولیت کی کم از کم سطح کھیتی حصول کی تعداد اور فیصد کی وضاحت	N/A
3.6. اگر کارگرت کھیتی کی موجودہ انتظامیہ پروڈیوزر یا موجودہ شیئر ہولڈرز کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو معاہدے کی اہم خصوصیات بشمول فی حصول کی قیمت، معاہدے کے تحت حاصل کیے جانے والے حصول کی تعداد اور فیصد، فروخت کنندہ کا نام، فروخت کنندگان کے عمل سے معاہدے کے غیر ملکیین کے نام، معاہدے کی تاریخ، زیر غور ادائیگی کا طریقہ، اضافی اہم معلومات، اگر کوئی ہو	N/A
3.7. حصول کی تاریخ کے ساتھ حاصل کنندہ کے پاس پہلے سے موجود حصول کی تعداد۔ یہ بھی بیان کریں کہ آیا آئینہ نگارین مارکیٹ کے ذریعے خریدے گئے یا تھاپا کر مالیاتی ذیل کے ذریعے حاصل کیا گیا تھا۔	ایم ایل سی ایف اس وقت 64,450,700 عام حصول کا ایک ہے جو اسے بی ایل کے ہر ایک 10 روپے کی قیمت کے مطابق کردہ اور ادائیغہ عام حصول کے سرمایہ 15.18 فیصد بناتا ہے۔ ان عام حصول میں سے مارچ 2024 سے نومبر 2024 کے دوران ایپن مارکیٹ کے ذریعے 59,844,240 عام حصول خریدے گئے جبکہ 18 اکتوبر 2024 کو بینک آف پنجاب سے خد کر مالی مارکیٹ ڈیل (ایپن ڈی ایم) کے ذریعے 4,606,460 حصول خریدے گئے۔ ایم ایل سی ایف کی ایک شریک کھیتی ایم ایل سی ایف اس وقت ہر ایک 10 روپے کی قیمت کے 38,670,001 عام حصول کی مالک ہے۔ یہ عام حصول مارچ 2022 سے جولائی 2023 کے دوران ایپن مارکیٹ کے ذریعے خریدے گئے تھے۔ اس دستاویز کی تاریخ تک ایم ایل سی ایف اور ایم ایل سی ایف کی شریک شیئر ہولڈنگ 103,120,701 عام حصول ہے جو اسے بی ایل کے ہر ایک 10 روپے کی قیمت کے جاری کردہ اور ادائیغہ عام حصول کے سرمایہ 24.28 فیصد ہے۔
3.8. قبولیت کی کم از کم سطح اگر کوئی ہو	کوئی نہیں

4. پیشکش قیمت اور مالی انتظامات

4.1. پیشکش قیمت کا جائز

4.1.1. عوامی پیشکش کے ذریعے حاصل کیے جانے والے حصول کی ادائیگی کی صورت	حصول پاؤں روپوں میں بینک ڈرافٹ پر یا روڈ چیک کے ذریعے نقد ادائیگی کے لئے حاصل کیے جائیں گے۔
4.1.2. عوامی پیشکش کے ذریعے پیش کیے جانے والے حصول کے لئے ادائیگی جانے والی کل رقم (مکمل قبولیت کو فرض کرتے ہوئے)	6,269,726,151/- روپے (صرف چھ لاکھ دو سو اسی تین سو سات ہزار ایک سو اسی تین روپے)۔
4.1.3. کیا ریکلیٹر کے ریگولیشن 13 میں شامل معیار کی روشنی میں کارگرت کھیتی کے حصول کی اکثریت کو تجارت کی جاتی ہے۔	پاکستان انسٹاکسچینج لیڈر میں کارگرت کھیتی کے حصول کی اکثریت ہوتی ہے۔ (Frequently Traded)
4.1.4. کیا ریکلیٹر کے ریگولیشن 13 میں شامل معیار کی روشنی میں کارگرت کھیتی کے حصول کے لئے پیشکش قیمت کا جواز	چیک کارگرت کھیتی کے حصول کی اکثر تجارت کی جاتی ہے، لہذا پیشکش کا عوامی اعلان اس قیمت پر ہونا ضروری ہے جو مندرجہ ذیل میں سب سے زیادہ ہے: 1۔ کارگرت کھیتی کے دو ہنگ حصول کے حصول کے لئے حصول کی خریداری کے معاہدے کے تحت مذاکراتی مجموعی اوسط قیمت: قابل اطلاق نہیں 2۔ عوامی پیشکش کے عام اعلان کی تاریخ سے قبل 180 دنوں کے دوران کارگرت کھیتی کے دو ہنگ حصول کے حصول کے لئے حاصل کنندہ کی طرف سے ادائیگی جانے والی سب سے زیادہ قیمت: 39.00 روپے فی حصول 3۔ عوامی پیشکش کے عام اعلان کی تاریخ سے قبل 180 دنوں کے دوران سکیم ریٹیز ایچ بی سی کارگرت کھیتی کے حصول کی مجموعی اوسط قیمت: 27.78 روپے فی حصول 4۔ ارادہ کو اعلان کی تاریخ سے قبل 28 تجارتی دنوں کے دوران سکیم ریٹیز ایچ بی سی کارگرت کھیتی کے حصول کی مجموعی اوسط قیمت اور صرف ان دنوں کو نظر رکھا جائے گا جن پر کارگرت کھیتی کے حصول کی تجارت کی گئی ہے: 23.32 روپے فی حصول مندرجہ بالا سب سے زیادہ قیمت 39.00 روپے فی حصول ہے جبکہ فی فراڈ انڈیکس لیڈر ("ایف ایف سی") کی جانب سے 25 اکتوبر 2024 کو 38.84 روپے فی حصول کی قیمت پر عوامی پیشکش کی گئی تھی۔ لہذا ایم ایل سی ایف کی جانب سے اس عوامی پیشکش کے تحت عام حصول کے حصول کے لئے یہ ساقی بولی 39.00 روپے فی حصول کی قیمت پر کی گئی ہے۔ جو ایف ایف سی کی طرف سے پیش کردہ قیمت سے زیادہ ہے اور مندرجہ بالا چار معیاروں میں سب سے زیادہ ہے۔

4.2. مالی انتظامات

4.2.1. کارگرت کھیتی کی قیمت 2015 کی دفعہ 123 کے مطابق کیے گئے کسی روپیہ انتظامات کے بارے میں انکشاف۔	ریگولیشن کے ریگولیشن (c) 15(1) کے مطابق، حاصل کنندہ نے چیک گاؤں کی شکل میں نمبر 6,320 میں روپے کی سکیم فی فراڈ ایپن ہے۔
4.2.2. عوامی پیشکش کے تحت ذمہ داروں کو پورا کرنے کے لئے مناسب اور مستحکم مالی وسائل کے بارے میں انکشاف	حاصل کنندہ نے عوامی پیشکش کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے پیشکش کے نتیجہ کارگرت کھیتی کے لئے مناسب مالی انتظامات کیے ہیں۔ اگر حاصل کنندہ ایک اور ریکلیٹر کے تحت ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے حجاب میں ادائیگی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو پیشکش منیجر عوامی پیشکش کے تحت حاصل کنندہ کی ادائیگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لئے تمام سکیم رٹیز واپس لے سکتا ہے اور ایک شیئر ہولڈر کو فروخت کر سکتا ہے جو عوامی پیشکش کے حجاب میں اپنے حصول پیش کریں گے۔
4.2.3. منیجر کی طرف سے پیشکش کا ایک بیان کہ پیشکش منیجر ایکٹ اور قواعد و ضوابط کی ضروریات کے مطابق عوامی پیشکش کو نافذ کرنے کے لئے حاصل کنندہ کی اہلیت سے مطمئن ہے	یکٹ کی پیشکش منیجر، پیشکش منیجر ایکٹ اور ضوابط کی ضروریات کے مطابق عوامی پیشکش کو نافذ کرنے کے لئے حاصل کنندہ کی اہلیت کے بارے میں مطمئن ہے۔ مزید برآں یکٹ کی پیشکش منیجر نے اس مسئلے میں جانچ پڑتال کا سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے۔

5. قبولیت اور تصفیے کا طریقہ کار

5.1. کارگرت کھیتی کے شیئر ہولڈر کی طرف سے عوامی پیشکش کی قبولیت کے لئے تفصیلی طریقہ کار	1۔ آفر لیڈر ان تمام شیئر ہولڈرز (حاصل کنندہ اور کسٹمرز میں کام کرنے والے شخص کے علاوہ) کو بھیجے جائیں گے جن کے نام اس عوامی پیشکش کے تحت آفر لیڈر وصول کرنے والے افراد کی اہلیت کا تعین کرنے کے لئے کارگرت کھیتی کی طرف سے اعلان کردہ کتابوں کی پیشکش کی تاریخوں پر بہروں کے رجسٹر میں درج ہوں گے۔ 2۔ عوامی پیشکش کو قبول کرنے کے لئے، شیئر ہولڈرز کو مطلوب دستاویزات (جیسا کہ ذیل میں بیان کیا گیا ہے) کے ساتھ منظوری کا لٹر (آفر لیڈر سے منسلک) منیجر کو اس کے رجسٹرڈ ایڈریس یعنی یکٹ کی پیشکش منیجر، سیکرٹری جنرل، مل کوٹ ہلڈنگ، ڈاکٹر انشیا مالہ رن احمد روڈ، کراچی، پاکستان پر ہفتہ، 04 جنوری، 2025 ("آفر کی تاریخ") کو نام 5:00 بجے یا اس سے پہلے پر بھیجنا ہوگا۔ شیئر ہولڈر (1) کو اس بات کو یقینی بنانا ضروری ہے کہ لٹر ایکٹ کا لٹر مناسب طریقے سے اور باقاعدہ دیکھا جاتا ہے۔ 3۔ اگر کوئی کارگرت کھیتی یا مطلوبہ معلومات ضرورت کے اندر فراہم کی جاتی ہیں تو، پیشکش منیجر دستاویزات کی وصولی (معمولی رسید) کی تصدیق جاری کرے گا۔ 4۔ منیجر کی جانب سے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ مکمل اور تصدیق شدہ قبولیت کے لٹر کی آخری تاریخ تک پیشکش کی رہبر و خواست کی قبولیت کا باعث بنے گی، جو مندرجہ ذیل شرط 5.4 سے مشروط ہوگی۔ 5۔ ایک بار متعین کرانے جانے کے بعد قبولیت کے مکمل لٹر کو عوامی پیشکش میں فروخت کنندہ شیئر ہولڈرز کے ذریعے منسوخ نہیں کیا جاسکتا ہے۔ 6۔ عوامی پیشکش سات دنوں تک (اتوار، 29 دسمبر، 2024 کو 9:00 PST سے پختہ، 04 جنوری، 2025 کو 5:00 PST تک) قبولیت کے لئے مکمل رہے گی۔ آخری تاریخ کو اوقات کار کے بعد وصول ہونے والی قبولیت پر غور نہیں کیا جائے گا اور قبولیت کی مدت میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ 7۔ قبولیت کے لٹر کی کاپیاں یکٹ کی پیشکش منیجر کے رجسٹرڈ دفتر (بالا فراہم کردہ پتہ) یا اس کی ویب سائٹ یعنی https://www.nextcapital.com.pk پر بھی دستياب ہوں گی۔
--	--

